



سوال

(185) عقیدہ ہے کہ مسجّد عنصری کے ساتھ آسمان پر اٹھائے گئے

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مسلمانوں کا عام عقیدہ ہے کہ مسجّد عنصری کے ساتھ آسمان پر اٹھائے گئے اور واپس تشریف لائیں گے۔ برائے رفع شبہ سوالات ذیل کا جواب مطلوب ہے۔

- 1۔ مخالفین نے سب نبیوں کا تکلیف دی۔ درپے قتل ہوئے۔ لیکن آسمان پر کوئی نہ اٹھایا گیا۔ مسجّد کے لئے ضرورت رفع کیا تھی۔
- 2۔ **تَاكَانَ مُحَمَّدًا أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ** ۴۔ **سورة الاحزاب** حدیث لانی بعدی اس حدیث اور آیت نے کسی نے اور پرانے نبی کے آنے کی نفی کر دی۔ اس لئے صدر رسالت محمدیہ ﷺ میں حضرت مسجّد کا نزول جسمانی ممنوع اور محال ہے۔ رہا یہ خیال کہ ابن مریمؑ بحیثیت امامت نازل ہوں گے۔ سو یہ گمان بھی دو وجہ سے ناجائز ہے۔ 1۔ یہ کوئی نبی اپنے منصب نبوت سے معزول اور معطل نہیں ہو سکتا۔ 2۔ یہ کہ اس خاص زمانہ میں امامت مہدی کے لئے مقرر ہے۔ لہذا ابن مریمؑ جو اسرائیلی نبی ہیں۔ امت محمدیہ کی ظاہری امامت کے لئے مستحق نہیں ہو سکتے۔ (شیخ قاسم علی اور سید پشتر)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

پہلے نبیوں کو دوبارہ بھیجنا منظور خدا نہ تھا۔ حضرت مسجّد کو دوبارہ بھیجنا ہے تاکہ ان کے ہاتھ سے اشاعت اسلام ہو۔ پچھلی مسلسل زندگی ختم نبوت کے منافی نہیں۔ حضرت مسجّد دوبارہ آکر نبوت سے معزول نہ ہوں گے بلکہ بحال رہیں گے۔ ان کا کام قرآن کی تبلیغ بتفہیم الہی جیسے حضرت ہارون کی تھی۔ اس پر کیا سوال نبوت سے معزول کیسے ہوئے انبیاء کی جماعت اللہ کے نزدیک سب ایک ہے۔

ہذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ ثنائیہ امر تسری



جلد 01 ص 372

محدث فتویٰ